

500 روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے

I am massaging.

میں مالش کر رہا ہوں۔

I got divorced.

مجھے طلاق ہو گئی

I have got engaged.

میری منگنی ہو گئی

Don't do it buddy!

نا کریار!

He is your fiancé.

وہ تمہارا منگیترا ہے۔

This man is a confirmed heavenly.

یہ بندہ پکا جنتی ہے۔

She was doing chores.

وہ گھر کے کام کر رہی تھی۔

She mopped the kitchen floor.

اس نے کچن کے فرش پر پوچا لگایا۔

She is washing dishes.

وہ برتن دھورہی ہے۔

Please help me fold clothes.

پلیز کپڑے تہ کرنے میں میری مدد کریں۔

You have to iron my shirt.

آپ نے میری شرٹ استری کرنی ہے۔

She is hanging clothes.

وہ کپڑے لٹکارہی ہے۔

Please dry these clothes in dryer.

یہ کپڑے ڈرائیر میں خشک کر دیں۔

Please wipe off this table

پلیز یہ میز صاف کر دیں۔

She was bathing her baby.

وہ اپنے بچے کو نہلا رہی تھی۔

Ahmad is watering the plants.

احمد پودوں کو پانی دے رہا ہے۔

Peel these potatoes.

یہ آلو چھیل دیں۔

Cut these potatoes.

یہ آلو کاٹ دیں۔

Amna will cook the dinner.

آمنہ رات کا کھانا بنائے گی۔

She is lulling her baby.

وہ اپنے بچے کو لوری سنارہی ہے۔

Sweep the house.

گھر پر جھاڑو لگا دو

Mop up the house.

پوچھا مار دو۔

Take a bath.

نہالو!

Bring out the vegetables from the fridges.

فرتج سے سبزی نکال دو۔

food is not yet ready.

کھانا ابھی نہیں بنا۔

500 روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے

Iron the clothes.

کپڑے استری کر لو۔

Breakfast is ready.

ناشتہ تیار ہے۔

Dal has spilled.

دال گر گئی ہے۔

Rice is not yet ready.

چاول کچے ہیں ابھی۔

Why are you so lazy.

اتنی آلسی کیوں ہو تم۔

Tune into news.

نیوز لگا دو۔

Put into the new curtains.

نئے پردے لگا دو۔

Curtains have to be washed.

پردے دھونے ہونے گے۔

Ac is out of order.

اسی خراب ہو گیا ہے۔

Get the ac fixed.

اسی ٹھیک کرواؤ۔

Your hair looks stunning.

آپ کے بال کمال لگتے ہیں۔

You have a magical voice.

تمہاری آواز میں جادو ہے۔

You are of one kind.

آپ کا کوئی ثانی نہیں۔

You have a charming personality.

آپ کی شخصیت دل فریب ہے۔

You finally did it.

تم نے آخر کر دکھایا۔

It's a masterpiece.

یہ ایک شاہکار ہے۔

I knew you had it in you.

مجھے پتا تھا تم میں یہ ہے۔

You are awesome.

آپ کمال ہیں۔

Spectacular work.

شانداز کام کیا۔

Wow! That was quick.

واہ اتنا جلدی!

You are trustworthy.

آپ قابل اعتبار ہیں۔

You have set a great example.

آپ نے ایک بڑی مثال قائم کر دی۔

You are so genius.

آپ بہت ذہین ہیں۔

You rule the hearts.

آپ دلوں پر راج کرتے ہیں۔

Your voice is magnificent.

آپ کی آواز بہت کمال ہے۔

500 روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے

Your eyes are breathtaking.

آپ کی آنکھیں دلنشین ہیں۔

You are a gift to those around you.

آپ اپنے دوستوں کے لیے نعمت ہیں۔

Hanging time you is always fun.

بڑے مزے کا وقت گزرتا ہے آپ کے ساتھ۔

You should be proud yourself.

تمہیں خود پر فخر کرنا چاہیے۔

You such a generous person.

آپ ایک کھلے دل کے انسان ہیں۔

You are inspiring.

آپ متاثر کن ہیں۔

You have impeccable manners.

آپ بہت بااخلاق ہیں۔

You are very humble person.

آپ بہت عاجز انسان ہیں۔

You have done a great job.

آپ نے کمال کا کام کیا ہے۔

You are very patient.

آپ بہت صبر کرنے والے ہیں۔

You are nice.

آپ بہت عمدہ ہیں۔

Your eyes are breathtaking.

آپ کی آنکھیں دلنشین ہیں۔

You are a gift to those around you.

آپ اپنے دوستوں کے لیے نعمت ہیں۔

Hanging time you is always fun.

بڑے مزے کا وقت گزرتا ہے آپ کے ساتھ۔

You should be proud yourself.

تمہیں خود پر فخر کرنا چاہیے۔

You such a generous person.

آپ ایک کھلے دل کے انسان ہیں۔

You are inspiring.

آپ متاثر کن ہیں۔

You have impeccable manners.

آپ بہت بااخلاق ہیں۔

You are very humble person.

آپ بہت عاجز انسان ہیں۔

You have done a great job.

آپ نے کمال کا کام کیا ہے۔

You are very patient.

آپ بہت صبر کرنے والے ہیں۔

You are nice.

آپ بہت عمدہ ہیں۔

Hanging time you is always fun.

بڑے مزے کا وقت گزرتا ہے آپ کے ساتھ۔

You should be proud yourself.

تمہیں خود پر فخر کرنا چاہیے۔

You such a generous person.

آپ ایک کھلے دل کے انسان ہیں۔

500 روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے

Thanks for your invitation.

آپ کی دعوت کا شکریہ۔

Here is an invitation card for you.

یہ آپ کے لئے دعوت نامہ ہے۔

Would you please come over here?

کیا آپ یہاں آنے کی زحمت کریں گے؟

Would you spend the whole day with us?

کیا آپ تمام دن ہمارے ساتھ گزاریں گے؟

Please have something cold.

مہربانی کر کے کچھ ٹھنڈا لیجئے۔

I'll be glad to do so.

مجھے ایسا کرنے میں خوشی ہوگی۔

Would you join me in the dance?

کیا آپ میرے ساتھ ناچیں گی؟

No, I don't dance.

نہیں، میں نہیں ناچتی۔

Let's go by bus.

آؤ بس سے چلیں۔

Please, spend next Sunday with us.

براہ کرم آپ اگلی اتوار ہمارے ہاں گزاریں۔

I regret for failing to accept your invitation to dinner.

کھانے پر آپ کی دعوت نہ قبول کرنے پر مجھے افسوس ہے۔

We'll try to be punctual.

ہم وقت پر آنے کی کوشش کریں گے۔

Thanks for your invitation to dinner.

کھانے پر آپ کی دعوت کا شکریہ۔

My fingers are dead.

میری انگلیاں سُن ہو گئی۔

You always take her side.

تم ہمیشہ اسکی سائیڈ لیتے ہو۔

Put aside all excuses.

سارے بہانے سائیڈ پے رکھو

I have come to believe it

میں یہ ماننے لگا ہوں۔

Bring a book along.

کتاب لیتے آنا

Let me breathe a sigh of relief

مجھے سکون کا سانس لینے دو۔

Will you cover for me ?

کیا میری جگہ پر کرو گے؟

I'll be right back.

میں ابھی واپس آتا ہوں۔

She stands a good chance of winning

اسکے جیتنے کے کافی امکان ہیں۔

She has a retentive memory.

اسکی یادداشت بڑی تیز ہے۔

Do not spurn me.

مجھے مت ٹھکراؤ۔

500 روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے

I will take two hours to get there

مجھے وہاں پہنچنے میں 2 گھنٹے لگے گیں۔

She is lighting a candle.

وہ موم بتی جلا رہی ہے۔

He is getting dressed up.

وہ کپڑے پہن رہا ہے۔

She is going downstairs.

وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہے۔

He is waving to him.

وہ اسے ہاتھ ہلا رہا ہے۔

She is drying her hair.

وہ اپنے بال سکھا رہی ہے۔

He is pouring the water into glass

وہ گلاس میں پانی ڈال رہا ہے۔

It's good to have you around.

اچھا ہے کہ تم پاس ہو۔

He is winding up the hose.

وہ پائپ کو لپیٹ رہا ہے۔

He is ironing a shirt.

وہ شرٹ استری کر رہا ہے۔

Do as you like.

جیسا چاہے کرو۔

He is ashamed of having lied.

وہ جھوٹ بولنے پر شرمندہ ہے۔

It is a quite another matter

یہ بالکل اور معاملہ ہے۔

Is she around?

کیا وہ آس پاس ہے؟

Shall I bring?

کیا میں لاؤں؟

This is between you and me.

یہ آپکے اور میرے درمیان ہے۔

Keep her happy.

اسے خوش رکھو۔

So, that's your game.

تو، یہ تمہاری چال ہے۔

You got me into trouble.

تم نے مجھے مشکل میں پھنسا دیا۔

Mind your step.

سنجھاں کر چلو۔

What difference does it make?

کیا فرق پڑتا ہے؟

It doesn't matter.

کوئی بات نہیں۔

Don't stand on ceremony.

تکلف مت کیجئے۔

What are you talking about?

کس بارے میں بات کر رہے تم؟

Make yourself at home.

اپنا ہی گھر سمجھیں۔

500 روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے

Scratch my back.

میری کمر کجھادیں۔

Do not try to woo her.

اسے پٹانے کی کوشش مت کرو۔

Shall I accompany you?

کیا میں ساتھ چلوں؟

Do not get on my nerves.

میرے ناک میں دم مت کرو۔

My job was just to tell you

میرا کام بس آپکو بتانا تھا۔

Stop tickling me.

مجھے گدگدی کرنا بند کریں۔

Mend yourself!

سدھر جاؤ۔

It was just a slip of tongue.

زبان پھسل گئی تھی۔

Who is he to you?

وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟

I will have to think..

مجھے سوچنا پڑے گا۔

He is furious with me.

وہ مجھے سے سخت ناراض ہے۔

Be ready!

تیار رہیں۔

What's the day today?

آج کونسا دن ہے؟

What's the big deal in it?

اس میں کیا بڑی بات ہے؟

Don't' make lame excuses.

بہانے مت بناؤ۔

Don't stretch the matter now.

بات کو اب مت بڑھاؤ۔

It's no use going there

وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔

Please, do not embarrass him.

پلیز، اسے شرمندہ مت کریں۔

Use your brain.

اپنے دماغ کا استعمال کرو۔

I'm feeling sleepy.

مجھے نیند آرہی ہے۔

You are responsible for that.

اسکے ذمہ دار تم ہو۔

Do not abuse him/her.

اسے گالی مت دو۔

You can't escape from this.

تم اس سے بچ نہیں سکتے۔

It's all yours.

اسے اپنی ہی چیز سمجھیں۔

Let me take a shower.

مجھے نہانے دو۔

500 روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے

It's no use asking him.

اس سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

What did you say?

کیا کہا تم نے؟

Did I get you right?

کیا میں آپکو سہی سمجھا؟

Let's learn something new.

چلو کچھ نیا سیکھتے ہیں۔

Don't take it your heart.

اسے دل پر مت لو۔

I'm in trouble.

میں پریشانی میں ہوں۔

I have got hurt.

مجھے چوٹ لگ گئی ہے۔

Your mouth is smelling of onion

تمہارے منہ سے پیاز کی بدبو آرہی ہے۔

Please keep quiet

چپ رہیے۔

Really!

سچیح، واقعی!

What a bother!

کیا پریشانی ہے؟

Touch wood!

کہیں نظر نہ لگے۔

What an idea!

کیا بڑی سوچ ہے!

Why not?

چپ رہیے۔

Take care.

دھیان رکھنا۔

What about us?

ہمارا کیا؟

She is happy.

وہ خوش رہے۔

Don't move.

ہلومت۔

I'm fine.

میں ٹھیک ہوں۔

It's not my fault.

یہ میری غلطی نہیں ہے۔

Are you sick?

کیا تم بیمار ہو؟

Don't litter here.

یہاں کوڑا مت کرو۔

Let me out.

مجھے باہر جانے دو۔

Come with us.

ہمارے ساتھ آؤ۔

Take your time.

آرام سے آؤ۔

500 روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے

Stay out of this.

اس سے دور ہی رہو۔

Latch the door.

کنڈی لگا دو۔

I'm fed up.

میں تنگ آ گیا ہوں۔

Keep sitting.

بیٹھے رہیے۔

Fix that.

اسے ٹھیک کرو۔

Say something.

کچھ بولو۔

I'm about to leave.

میں نکلنے والا ہوں۔

Say that again.

وہ پھر سے کہو۔

Where to go?

کہاں جانا ہے؟

Find the solution.

حل ڈھونڈو۔

Don't tell others.

دوسروں کو مت بتانا۔

Take it down.

اسے نیچے لے جاؤ۔

Think it over.

اس پر سوچو۔

Show him out!

اسے باہر کاراستہ دکھاؤ

I didn't recognize you.

میں نے آپ کو نہیں پہچانا

How do you do that?

تم یہ کیسے کر لیتے ہو؟

You are such a dark horse.

بڑے چھپے رستم ہو

What do you think, what should I do?

کیا خیال ہے مجھے کیا کرنا چاہئے

Stop tickling me!

گدگدی کرنا بند کرو

Such a moocher you are.

بڑے ہی مفت خور ہو

Wring the clothes!

! کپڑے نچوڑ دو

Wait outside.

باہر انتظار کرو۔

Speak your mind.

اپنے دل کی بات کہو۔

You're such a glutton.

تم بڑے ہی پیٹو ہو

Don't try my patience.

میرے صبر کا امتحان مت لو

500 روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے

Look, make bed over here.

دیکھو یہاں بستر لگا دو

Get to the point.

کام کی بات کرو۔

Hang on a minute.

ایک منٹ رکو زرا

I have nothing to do with this.

مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

Walls have ears.

دیواروں کے کان ہوتے ہیں

Nobody was home.

گھر پر کوئی نہیں تھا۔

How long does it take to get there?

وہاں پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟

Why have you offended him?

تم نے اسے ناراض کیوں کیا؟

All the things were at sixes and sevens in the room.

کمرے میں تمام چیزیں بکھری پڑی تھیں

Do not pay off old scores and be friends.

پرانے بدلے نہ چکاؤ، اور دوست بن جاؤ

Why are you pulling my legs?

تم میرا مزاق کیوں بنا رہے ہو؟

So far, so good.

ابھی تک تو سب ٹھیک ہے۔

No such luck!

ایسی قسمت کہاں

His efforts were crowned with success.

اس کی کوششیں پھل لے آئیں۔

The police caught the thief red-handed.

پولیس نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑا

Do what you have to do.

جو کرنا ہے کرو

It is a sin call name.

گالی دینا گناہ ہے۔

She has intoxicated eyes.

اس کی آنکھیں نشیلی ہیں۔

What the eye sees not.

نہ رہے گا بانس نہ بچے گی بانسری

Much cry, little wool.

رات بھر روتے رہے مرا کوئی نہیں

Have a little more.

تھوڑا اور لیجئے۔

Every man for himself.

ہر بندے کو اپنی فکر کرنی چاہئے

Just taste it.

چکھ کر دیکھو

She is so skeptical.

وہ بہت شکلی ہے

500 روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے

Mind your language.

منہ سنبھال کر بات کرو۔

What shall I say?

میں کیا کہوں؟

Love begets love.

دل کو دل سے راہ ہوتی ہے

Who are you to say that!

تم ایسا کہنے والے کون ہو

You can't do anything to me.

تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔

Something is fishy.

کچھ گڑبڑ ہے

A bad beginning makes a bad ending.

آغاز بد انجام بد

Speak little, but speak the truth.

تھوڑا بولو سچ بولو۔

Now the game is over.

اب تو کھیل ختم ہو چکا ہے۔

You are really a piece of Moon.

چاند کا ٹکڑا ہو تم۔

I saw a saw but could not saw.

میں نے ایک آری دیکھی جو دیکھ نہ پایا۔

Don't shirk work.

کام سے جی مت چراؤ۔

Don't spit on the floor.

فرش پر مت تھو کو

He came into my bedroom.

وہ میرے خواب گاہ میں آیا

Atone for your sins.

اپنے گناہوں سے توبہ کرو

What's the day today?

آج کونسا دن ہے؟

Use your wit.

ہوش سے کالو

Who is he to you?

وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟

Thread the needle.

سوئی میں دھاگہ ڈالو۔

I'm going to the flea market.

میں لنڈا بازار جا رہا ہوں۔

Touch wood!

! کہیں نظر نہ لگ جائے

With whom do you come?

آپ کس کے ساتھ آئے ہو؟

Do you think Ali is a good man?

کیا آپ علی کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں؟

Whom do you love most?

آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتی ہو؟

I don't know where he is.

مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے

500 روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے

He is intelligent as well as hardworking.

وہ ذہین بھی ہے اور محنتی بھی۔

He said that he was busy.

اس نے کہا کہ میں مصروف ہوں۔

He had no money that is why I paid the bill.

اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے میں نے بل دیا۔

Work hard otherwise you will fail.

محنت کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔

Either you or Asif stolen my book.

تم نے یا آصف نے میری کتاب چوری کی ہے۔

She asked me if I was ok.

اس نے مجھ سے پوچھا آیا کہ میں ٹھیک ہوں۔

As I was free I went there.

چونکہ میں فارغ تھا اس لیے وہاں چلا گیا۔

Although he is rich yet he is miser.

اگرچہ وہ امیر ہے لیکن پھر بھی کنجوس ہے۔

Walk fast lest we should miss the train.

تیز چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بس سے رہ جائیں۔

He is so weak that he can't walk.

وہ اتنا کمزور ہے کہ چل بھی نہیں سکتا۔

I need another blanket.

مجھے ایک اور کبیل چاہیے۔

Wake me up at Five O' clock.

مجھے پانچ بجے جگا دینا۔

I have to go to Faisalabad.

مجھے فیصل آباد جانا ہے۔

All is fair in love and war.

پیار جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔

Extolling you at your face is flattery.

منہ پر تعریف کرنا خوشامد ہوتی ہے۔

I often meet her.

میں اسے اکثر ملتا ہوں۔

She told you twice.

اس نے تمہیں دو دفعہ بتایا۔

He seldom comes here.

وہ کبھی کبھار یہاں آتا ہے۔

When will you leave?

تم کب روانہ ہو گے؟

I know where he lives.

مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے۔

She is peeping through the window.

وہ کھڑکی سے جھانک رہی ہے۔

He got off the bus.

وہ بس سے اترا۔

He has no house to live in.

اس کے پاس رہنے کیلئے گھر نہیں۔

Fools praise fools.

گدھا گدھے کو کھجاتا ہے۔

Keep off the grass.

گھاس پر نہ چلیے۔

500 روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے

Time once lost can not be regained.

گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔

Where should I stay in Lahore?

لاہور میں کہاں ٹھہرنا چاہیے؟

It appears he is out his wits.

مجھے لگتا ہے اس کے ہوش ٹھکانے نہیں۔

The mirror was broken by me.

مجھ سے آئینہ ٹوٹ گیا۔

We are poles apart.

مجھ میں اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

Is it late?

کیا دیر ہو گئی ہے۔

May I sit here?

کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟

The train is out of sight now.

گاڑی اب دکھائی نہیں دے رہی۔

He went on Monday.

وہ سوموار کو گیا۔

He sleeps at noon.

وہ دوپہر کو سوتا ہے۔

This is a French fashion.

یہ فرانس کا فیشن ہے۔

He died of cholera.

وہ ہیضہ سے مرا۔

It has been raining since morning.

صبح سے بارش ہو رہی ہے۔

Asim is the best of all.

عاصم سب سے اچھا ہے۔

Farhan is better than Furqan.

فرحان فرقان سے اچھا ہے۔

Maria speaks loudly.

ماریہ بہت اونچا بولتی ہے۔

We go to park daily.

ہم روزانہ پارک میں جاتے ہیں۔

She arrived too soon.

وہ زیادہ ہی جلدی آگئی۔

He walks too slow.

وہ بہت آہستہ چلتا ہے۔

Do you know when it happened?

کیا آپ کو معلوم ہے یہ کب ہوا؟

Ali as well as Ahmad is absent.

علی بھی غیر حاضر ہے اور احمد بھی۔

Work hard otherwise you will fail.

محنت کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔

I can't go as I am busy.

میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں مصروف ہوں۔

He is so weak that he cannot walk.

وہ اتنا کمزور ہے کہ چل بھی نہیں سکتا۔

As far as I know he is good.

جہاں تک میں جانتا ہوں وہ اچھا ہے۔

500 روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے

You made me laugh.

تم نے مجھے ہنسایا۔

He is on death bed.

وہ بستر مرگ پر ہے۔

He came to my residence.

وہ میری رہائش گاہ پر آیا۔

I have no objection to this.

مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔

I will go on Monday morning.

میں سو موار کو صبح جاؤں گا۔

These grapes are sweet to eat.

یہ انگور کھانے میں میٹھے ہیں۔

This book is easy to understand.

یہ کتاب سمجھنے میں آسان ہے۔

He is called by different names.

وہ کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔

Ahmad is the best of all.

احمد سب سے اچھا ہے۔

I would rather die than beg.

میرے لیے بھیک مانگنے سے مرنا اچھا ہے۔

I'll surely keep this in mind.

میں ضرور اس بات کا خیال رکھوں گا۔

May I say something?

میں کچھ عرض کروں؟

I haven't seen your book.

میں نے تمہاری کتاب نہیں دیکھی۔

He is an ordinary clerk.

وہ تو ایک معمولی کلرک ہے۔

Be punctual and attentive.

وقت پر کام کرو اور دھیان دو۔

Don't go out bare footed.

ننگے پیر باہر نہ جاؤ۔

Put the notice on notice board.

نوٹس کو نوٹس بورڈ پر لگا دو۔

I have few rupees.

میرے پاس کچھ روپے ہیں۔

I have many friends.

میرے بہت سے دوست ہیں۔

Its clear today.

آج مطلع صاف ہے۔

The tyre of the car burst.

کار کا ٹائر پھٹ گیا۔

Please give change.

مہربانی کر کے ریزگاری دیجئے۔

When will the match start?

میچ کس وقت شروع ہوگا؟

I am under debt.

میرے اوپر قرض ہے۔

I will think over this matter.

میں اس معاملہ پر سوچوں گا۔

500 روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے

I am fond cycling.

میں سائیکل چلانے کا شوقین ہوں۔

I'll surely keep it in mind.

میں ضرور اس بات کا خیال کروں گا۔

May I say something?

میں کچھ عرض کروں؟

The shouts rent the sky

نعروں سے آسمان گونج اٹھا۔

He is an eye-witness .

وہ چشم دید گواہ ہے۔

He will have to account for the money.

اسے پیسے کا حساب دینا ہوگا۔

He will be pleased to meet you.

انہیں آپ سے مل کر خوشی ہوگی۔

He gets low salary.

اسے تھوڑی تنخواہ ملتی ہے۔

He was admitted to hospital.

اسے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔

He reminds me of his brother.

اسے دیکھ کر مجھے اس کے بھائی کی یاد آئی۔

The child fell from the roof.

بچہ چھت سے گر گیا۔

Each of these boys play games.

ان لڑکوں میں سے ہر ایک کھیل کھیلتا ہے۔

Police inquired into the matter.

پولیس نے معاملہ کی جانچ کی۔

When you will meet them?

تم ان سے کب ملو گے؟

Of course, I do.

بے شک، کرتا ہوں۔

Its drizzling.

بوندا باندی ہو رہی ہے۔

Don't get disturbed by this news.

اس خبر سے گھبرائیے نہیں۔

What difference does it make?

اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟

Translate this from Urdu into English.

اس کا اردو سے انگلش ترجمہ کیجیے۔

His criticism is not based on facts.

اس کی تنقید حقیقت پر منحصر نہیں۔

We were bored of his behavior.

اس کے سلوک سے ہم اکتا گئے۔

His action caused the quarrel.

اس کے کام کے نتیجے میں جھگڑا ہوا۔

She doesn't have a son

اس کے لڑکا نہیں ہے۔

He acted contrary to his rules.

اس نے اپنے اصولوں کے خلاف کام کیا۔

Many a man suffered at his hands.

اس کے ہاتھوں کئی لوگوں نے دکھ اٹھایا۔

500 روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے

I haven't seen him for one week.	میں نے اسے ایک ہفتے سے دیکھا نہیں۔
I have never done it before.	میں نے پہلے کبھی نہیں کیا
I might do that.	میں شاید یہ کروں
No, not yet.	نہیں، ابھی نہیں
So, let's get started.	تو چلیے، شروع کرتے ہیں۔
I am a chocoholic.	میں چاکلیٹ کی بڑی شوقین ہوں۔
I know a bit about it.	مجھے اس بارے میں تھوڑا پتا ہے۔
Look it up on the internet.	انٹرنیٹ پر تلاش کر لو
I didn't say I didn't believe you.	میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تم پر یقین نہیں
We finished in record time.	ہم نے بہت ہی کم وقت میں اپنا کام ختم کر لیا
Please rectify the mistakes in my bill.	براہ کرم میرے بل میں جو غلطیاں ہیں ان کی تصحیح کر دیں
He is a young cricketer with great potential.	وہ بہت باصلاحیت نوجوان کرکٹر ہے
The new leader reanimated the political party.	نئے لیڈر نے سیاسی جماعت میں پھر سے جان ڈال دی
I have a fairly light teaching load this term.	اس طے شدہ مدت میں میرے ذمے پڑھانے کا کام کافی ہلکا ہے
There is a letter addressed to you.	آپ کے نام ایک خط ہے
I own nothing beyond the clothes on my back.	میرے بدن پر جو کپڑے ہیں، ان کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں
That old film evoked memories of my childhood.	اُس پرانی فلم نے میری بچپن کی یادیں تازہ کر دیں
The court adjudged that he was guilty.	عدالت نے فیصلہ دیا کہ وہ قصور وار ہے
The police were unable to hold back the crowd.	پولیس ہجوم کو روکنے میں ناکام رہی
Tuck your shirt into your trousers	اپنی قمیض پینٹ کے اندر کر لو
I have nothing to do with him.	میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں؟

500 روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے

I'll stand by what I said earlier.

میں نے جو پہلے کہا، اس پر اب بھی قائم ہوں

Do take your jacket off ; we do not stand on ceremony in this house.

اپنی جیکٹ اتار لو۔ ہم اس گھر میں تکلف نہیں کرتے

His meanness has become a standing joke.

اس کی کمینگی ایک مستقل لطیفہ بن چکی ہے

She spurned all offers of help.

اس نے مدد کی ہر پیشکش ٹھکرا دی

She suddenly spied her brother in the crowd.

اس نے اچانک اپنے بھائی کو ہجوم میں دیکھ لیا

I woke up from the bad dream with a start.

ایں یکدم گھبرا کر برے خواب سے چونکا

The goods were consigned to you by railway

سامان آپ کو ریلوے کے ذریعے بھیج دیا گیا تھا

A good education gives the best possible start in life.

اچھی تعلیم زندگی میں بہترین ممکنہ آغاز مہیا کر دیتی ہے

I have nothing further to say.

مجھے مزید کچھ نہیں کہنا ہے

I don't remember ever seeing him before.

مجھے یاد نہیں کہ میں نے اُسے پہلے کبھی دیکھا ہو

We owe our parents a lot.

ہم پر ہمارے والدین کے بہت سے احسانات ہیں

What rotten weather!

کتنا خراب موسم ہے!

I can't stand it any longer.

اب میں مزید اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا

I did it from force of habit

میں نے یہ کام عادت سے مجبور ہو کر کی

He writes to me every now and then.

اوہ گا ہے بگا ہے مجھے خط لکھتا ہے

You can get this booklet gratis from here.

آپ یہاں سے یہ کتابچہ مفت حاصل کر سکتے ہیں

My overall impression is that his work is good.

میرا مجموعی تاثر یہ ہے کہ اُس کا کام اچھا ہے

She overindulges her children.

وہ اپنے بچوں کے کچھ زیادہ ہی لاڈ لکھتی

I have got a speck of dirt on my shirt

میری قمیض پر گندگی کا ایک نشان ہے

Lean security allowed the thieves to enter.

ناکافی سیکورٹی کی وجہ سے چور اندر آنے میں کامیاب ہو گئے

He spends most of his time travelling.

وہ اپنا زیادہ تر وقت سفر میں گزارتا ہے

We were under fire from all sides.

ہر طرف سے ہم پر گولیاں برس رہی تھیں

500 روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے جملے

I mustered up my courage and walked onto the stage.	میں نے ہمت کی اور سٹیج پر چڑھ گیا
The test for bacteria was negative.	ٹیسٹ میں بیکٹیریا نہیں تھا
The little girl was murmuring in her sleep.	چھوٹی بچی نیند میں بڑبڑا رہی تھی
The window was wide open.	کھڑکی پوری کھلی ہوئی تھی
The Newspapers have labelled him as a traitor.	اخبارات نے اسے غدار قرار دے دیا ہے
I spent hours browsing in the book-shop.	میں نے بک شاپ میں کئی گھنٹے کتابوں کی ورق گردانی میں صرف کئے
Come quickly; the child is drowning.	جلدی آؤ؛ بچہ ڈوب رہا ہے
Mesh the potatoes with a fork.	کانٹے سے آلوؤں کو پھینٹو
They petitioned the government to reconsider its decision.	نہوں نے حکومت سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی
The news of the plane crash filled us with horror	جہاز کے حادثے کی خبر نے ہمیں خوفزدہ کر دیا
You've been a great help.	آپ نے بہت مدد کی ہے
His smile had masked his anger.	اُس کی مسکراہٹ نے اُس کے غصے پر پردہ ڈال رکھا تھا
He is a lenient judge who passes lenient sentences.	وہ ایک نرم دل جج ہے جو نرم سزائیں دیتا ہے
There's no accounting for the taste.	شوقِ داکوئی مل نہیں۔
My foot, my tutor.	میری بلی، مجھے میاؤں میاؤں۔۔
What the heck!	! کیا مصیبت ہے
There is no accounting for the taste.	شوقِ داکوئی مل نہیں۔
I damn care!	! مجھے کوئی پرواہ نہیں
Give me the change please	مجھے کھلے پیسے دیں۔